

63. ALMUNAFIQUN (TUN MUNAFIK)
Suet ke-63: 11 ayat

Ngen madeak gen Allah de Paling Pengasiak
kulo paling Penyayang

1. Amen tun-tun munafiq teko ngen ko, si madeak : keme makau, bahwa sebeneane udi benea-benea rasul Allah. Dan Allah namen bahwa sebeneane udi benea-benea rasul-Ne; dan Allah namen bahwa sebeneane tun-tun munafiq-o benea-benea tun ngike.
2. Si-o menea supeakne awei prisai, lajau si malang (manusio) kenei dalen Allah. Sebeneane kembiaik kidek-ba jano da bik si kemerjo.
3. Da awei-o ba adeba kerno bahwa sebeneane si bik beimen, sudo-o ijai kapia (igai) lajau atei-ne kenuai matei., kerno-o si coa dapet namen.
4. Dan amen udi kemliak si, awok-awok-ne meneau di kagum. Dan amen si madeak udi temu-uk kecekne. Si adeba awei kiyu da sang(g)et. Si kemiro bahwa tiep-tiep saei da lek nuju ngen si. Si-o ba musuak (da sebeneane) mako atei-ateiba adep si; semoga Allah mbinaso si. Akuakro kah si sapei coa dulai (kunei kebea) ?
5. Dan amen madeak ngen si : maroba (beimen), bukliak rasulullah minoi mapun utuk-ne, si muang papea si ngen udi kemliak si coa dulai idong si mom(b)ong dirai.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكُمْ الْمُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ إِنَّا لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿١﴾

أَخْنَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحَةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا

تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدٌ تَحْسَبُونَ ﴿٤﴾

كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُوُ فَآحَدَرَهُمْ قَنْتَاهُمْ

اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٥﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

لَوْا زُرْءَوَسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكِبُرُونَ ﴿٦﴾

6. Serai bae utukne, udi minoi apun atau coa udi minoi apun bagine, Allah coakan mapun si: sebeneane Allah coa melei petunnyuk ngen tun-tun da fasik.

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الفَسِيقِينَ ﴿١﴾

7. Si tun-tun da madeak (ngen tun-tun Anshor) : jibeak ba udi melei belanjo ngen tun-tun (Muhibirin) da ade neak adep rasulullah buliak si bubar (teming(ge)a Rasulullah). Padahal mil;ik Allah ba perbendaharaan lenget ngen bumei tapi tun-tun munafik-o coa maham.

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلَلَّهُ خَرَابُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْتَفِقِينَ لَا

يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾

8. Si madeak : sebeneane amen ite bik belek moi mdineak, banea-banea tun da kuwet lok musir tun-tun da lemah kunei-ne.padahal kuwet-o hanyoba utuk Allah, utuk rasul-Ne dan utuk tun-tun mukmin. Tapi tun-tun munafik-o coa namen.

يَقُولُونَ لِئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجُنَّ
الْأَعْزُزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَلَّهُ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْتَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

﴿٣﴾

9. Hoitun-tun beimen, jibeakba harto-harto-nu ngen anok-anok-nu melalo i udi keni nginget Allah. Api da kemerjo awei-o mako si-o ba tun-tun da rugai.

يَا تَيَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٤﴾

10. Dan belanjo ba pa-o kunei jano da bik keme melei ngen ko ayok sapei kematian ngen saleak do neak antaro udi; lajau si madeak: hoi tuhanku, gentai ko coa melei watau (kematian) ku sapei waktau da pa-ok, da sembab uku dapet besedekeak dan uku temasuk tun-tun da soleh.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ
أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥﴾

11. Dan Allah coa agok debat lok melei waktau (kematian) agok do amen waktau sapei kematianne dan Allah Paling Namen jano da udi kemerjo.

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾